



**(تجارتی) قافلوں سے آگے جاکر نہ ملا کرو ( بلکہ ان کو منڈی میں آنے دیا کرو ) کسی کی بیع پر بیع نہ کرو اور نہ ہی (خریداری کی نیت کے بغیر) محض ریٹ بڑھانے کے لئے بولی لگاؤ اور کوئی شہری شخص (دلال بن کر) کسی دہاتی کی طرف سے نہ بیچے اور (بیچنے کے لئے) اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔**

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرمایا: ”(تجارتی) قافلوں سے آگے جاکر نہ ملا کرو ( بلکہ ان کو منڈی میں آنے دیا کرو ) کسی کی بیع پر بیع نہ کرو اور نہ ہی (خریداری کی نیت کے بغیر) محض ریٹ بڑھانے کے لئے بولی لگاؤ اور کوئی شہری شخص (دلال بن کر) کسی دہاتی کی طرف سے نہ بیچے اور (بیچنے کے لئے) اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو اگر کسی نے (دھوکے میں آکر) کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دودھ دوڑنے کے بعد دونوں اختیارات ہیں یعنی چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے اور ایک صاع کھجور اس کے ساتھ دودھ کے بدلے دے دے“

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

نبی ﷺ کی پانچ حرام صورتوں سے منع فرمایا ہے کیونکہ ان سے فروخت کنند یا خریدار یا ان کے علاوہ کسی اور شخص کو نقصان ہوتا ہے: 1- جو لوگ اپنے سامان تجارت جیسے اشیائے خوردنی اور جانور بیچنے کے لئے آ رہے ہوں ان کے منڈی تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کے پاس جا کر ان سے خریداری کرنے سے منع فرمایا کیونکہ ان کو ریٹ کا علم نہیں ہوتا چنانچہ ممکن ہے کہ یہ شخص فروخت میں اپنے دھوکے دے کر اپنے ان کے رزق سے محروم کر دے جس کے لئے انہوں نے اتنی مشقت اٹھائی ہوتی ہے 2- اسی طرح نبی ﷺ نے کسی کی فروخت پر فروخت اور اسی طرح اس کی خریداری پر خریداری کرنے سے منع فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ شخص خیارِ مجلس یا خیارِ شرط کے دوران خریدار کو یہ کہے کہ میں تمہیں اس سامان تجارت سے زیادہ عمدہ سامان اس سے کم قیمت پر دیتا ہوں یا پھر یہ دوسرا شخص اگر فروخت کنند تو اس سے کہے کہ اس کی جو قیمت لگ چکی ہے میں اس سے زیادہ میں تم سے یہ خریدتا ہوں اور ایسا کرنے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص بیع کو فسخ کر کے اس کے ساتھ عقد کر لے اسی طرح دونوں قسم کی اختیار ختم ہو جائے کہ بعد بھی آپ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ (فروخت کنند یا خریدار کو) اس طرح سے اکسانا باہمی بغض و عداوت اور نفرت کا سبب بنتا ہے اور اس سے اس آدمی کو اس کے رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے 3- آپ ﷺ نے بیع ”نجش“ سے منع فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ سامان تجارت کو خریدنے کی نیت کے بغیر ہی اس کا ریٹ بڑھا دیا جائے جس کا مقصد فروخت کنند کو زیادہ قیمت دلا کر اسے نفع پہنچانا یا پھر سامان تجارت کا بھاؤ بڑھا کر خریدار کو نقصان پہنچانا اور اس سے اس کے خریدنے سے روکنا ہے اس کی ممانعت اس لئے ہے کیونکہ اس میں خریداروں کے ساتھ کذب بیانی ہوتی ہے اور انہیں دھوکے دیا جاتا ہے اور مکر فریب کے ذریعے سے سامان تجارت کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے 4- اسی طرح آپ ﷺ نے شہری شخص کو دہاتی شخص کا سامان تجارت بیچنے سے منع فرمایا کیونکہ اس کو اس کے ریٹ کا پوری طرح سے علم ہوتا ہے اور وہ اس میں کوئی گنجائش چھوڑتا ہے نہ ہی اس کے خریدار فائدہ اٹھا سکیں جب کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ ان میں سے کچھ کو کچھ کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے“ 5- چوپایوں میں سے مُصْرَا (یعنی ایسا جانور جسے بیچنے کے لئے اس کے دودھ کو کچھ عرصے کے لئے اس کے تھنوں میں ہی رکنے دیا جائے) کی بیع کرنے کی ممانعت جس سے خریدار کو یہ لگے کہ اتنا

دودھ دینا اس جانور کا معمول ہے اور اس خیال سے وہ جانور کو زیادہ قیمت پر خرید لے حالانکہ وہ حقیقت میں اتنے کا نہ ہو ایسا کرنے پر وہ شخص خریدار کو دھوکہ دینے اور اس پر ظلم کرنے کا مرتکب ہو گا اسی لئے شارع علیہ السلام نے خریدار کے لئے اتنی مدت متعین کر دی جس میں وہ اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافی کا تدارک کر سکتا ہے جو کہ تین دن کا اختیار ہے چاہے وہ اس جانور کو اپنے پاس رکھے یا پھر یہ پتہ لگنے کے بعد کہ وہ مصراف ہے، اسے فروخت کنندہ کو واپس کر دے اگر اس نے دودھ دھو لیا تو جانور کے ساتھ ساتھ اس دودھ کے بدلے میں ایک صاع کھجور بھی دے دے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5918>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

